

Standard High School

Mughalabad Road, Tench Bhatta, Rwp Cantt.

Phone No. 051-5525585, 5563903

السلام وعلیکم!

ہم سب آپ کے لیے دُعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ
سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اُمید ہے آپ سب
خیریت سے ہوں گے۔

آپ کے خیر خواہ

سٹینڈرڈ ہائی سکول انتظامیہ بمعہ سٹاف

شکریہ

51) ٹینڈر ڈبائی سکول مغل آباد روڈ راولپنڈی

جماعت - ششم
اردو (بی)

* والد صاحب کے نام امتحان میں کامیابی اور کتابوں

کے لیے رقم منگوانے کا خط

نمبر امتحان

یکم اپریل 2020ء

پیارے ابو جان!

السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔

آپ کو - سنسن کر از حد خوشی ہوگی کہ میں پانچویں جماعت

کے عدلانہ امتحان میں نہ صرف پاس ہو گیا ہوں بلکہ

اپنی جماعت میں اول بھی آیا ہوں۔ یہ سب آپ

کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی کامیابی

عطا فرمائی ہے۔ اب جماعت ششم کی تعلیمی

سرگرمیاں شروع ہوں گی۔ مجھے نئی کتابوں،

کاپیوں اور سکول یونیفارم کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے

مہربانی فرمائیں ہزار روپے ہذریہ منی آرڈر جلد

از جلد بھیج دیں تاکہ ضرورت کی چیزیں خرید سکوں۔

امتی جان اور بھائی جان کی طرف سے سلام۔

دعاؤں کا طالب

آپ کا فرمانبردار بیٹا

ابوبیح

★ والد کے نام بیمار پر مہی کا خط

نکرہ امتحان

02 اپریل 2020ء

پیاری اُمّی جان!

آداب! مجھے ابھی ابھی جہانی جان کے خط سے معلوم ہوا ہے کہ آپ چند دنوں سے بیمار ہیں۔ اس خبر سے میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے اطلاع دیں کہ آپ کو کیا عارضہ ہے اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میری دل کی گہرائشوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت عطا فرمائیں۔ خط کے جواب میں دیر نہ کیجیے۔ اگر جواب میں دیر ہوئی تو میں خود آؤں گا۔ ابو جان کی خدمت میں سلام۔ باقی اور جہانی جان کو سلام۔

والسلام!

آپ کا بیٹا

ا۔ ب۔ ج

کہانی -

03)

کسان اور اس کے بیٹے

ایک کسان کے چار بیٹے تھے۔ وہ بڑے شہر آتی تھے۔
 ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ایک
 دن کسان کو ایک تجویز سوچی۔ اس نے اپنے
 چاروں لڑکوں کو بلایا اور کہا سب لڑکے دوڑ کر لکڑیوں
 کا ٹکھا لے آؤ۔ باپ نے ہر ایک کو باری باری ۱۰
 گنٹا توڑنے کو کہا۔ سب نے کوشش کی مگر اس
 کو توڑ نہ سکے۔ اس کے بعد کسان نے لکھے کو
 کھول دینے کا حکم دیا اور کہا کہ اب اس کو توڑو۔
 سب نے اپنی اپنی لکڑی توڑ ڈالی۔ باپ نے ان
 کو سمجھایا کہ اگر آپ سب اس لکھے کی طرح
 لکھے رہیں گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان
 نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر آپ اللہ اللہ ہو جائیں
 گے تو عمر بھر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش
 کرے گا اور تم لکڑیوں کی طرح ٹوٹ کر رہ جاؤ گے۔
 لہذا اتفاق و اتحاد قائم کرو۔

نتیجہ -

اتفاق میں برکت ہے۔

چالاک لومڑی

ایک کوا کے کوروٹی کا ٹکڑا ملا۔ وہ اسے اپنی چونچ میں دباٹے ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ ادھر سے ایک لومڑی کا گزر ہوا۔ لومڑی نے روٹی کا ٹکڑا کوا کے منہ میں دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ لومڑی جبکے سے اس درخت کے نیچے اُتر بیٹھ گئی اور بولی کوا سے ہیا، تو کتنا خوبصورت ہے۔ اگر تو جھٹل کا بادشاہ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ پھر لومڑی سوچ کر بولی سب سے پیاری تو تمھاری آواز ہے۔ میں آج تم سے ضرور ٹانا سنوں گی۔ کوا اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور ٹانے لٹا۔ جوں جوں اس نے کانٹن کانٹن کی۔ روٹی کا ٹکڑا نیچے گر پڑا۔ لومڑی نے جھپٹ کر ٹکڑا اٹھایا اور جاگ گئی۔ کوا منہ دیکھتا رہ گیا۔

نتیجہ۔

خوشنادر بڑی بلا ہے۔

نوٹ۔ مقام کام املا کا دھیان رکھتے ہوئے فولڈر بنا کر اس پر لکریں۔ والدین اپنی نگرانی میں کام کروائیں۔

☆ درخواست برائے رخصت بیماری (05)

خدمت جناب بیڈ ماسٹر صاحب ایس۔ ایچ۔ ایس۔
راولپنڈی

جناب عالی!

نبایت ادب سے گزارش ہے کہ کل سکول سے
واپسی پر شدید ٹری کی وجہ سے مجھے سر درد ہونے
لگا اور رات کو بخار بھی ہو گیا جس کی وجہ سے سکول
حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ براہ مہربانی دو یوم کی رخصت
عطا فرمائیں۔ آپ کی مہربانی ہوگی۔

درخواست گزار

ا۔ ب۔ ج

جماعت۔ ششم

مورخہ۔ یکم اپریل 2020ء

دستخط

☆ غلط فقرات کی اصلاح

میں۔ درج ذیل غلط فقرات کی اصلاح کریں۔

☆ میرا جیب کٹ گیا۔
میری جیب کٹ گئی۔

☆ ضد کرنی اچھی نہیں۔
ضد کرنا اچھا نہیں۔

* - اس کی مرض بڑھ گئی -
اس کا مرض بڑھ گیا -

* - میں خیریت سے ہوں -
میں خیریت سے ہوں -

* - ہم کو آج چھٹی ہے -
ہمیں آج چھٹی ہے -

* - ماہِ رمضان کا مہینہ بھی آگیا -
رمضان کا مہینہ بھی آگیا -

* - اس کی نذر کمزور ہے -
اس کی نظر کمزور ہے -

* - ایک انار لینی بیمار -
ایک انار سو بیمار -

* - نانی عجمت کرنے آیا ہے -
نانی عجمت بنانے آیا ہے -

* - مای نے ہر ابرا گھاس کاٹا -
مای نے ہری ہری گھاس کاٹی -

07)

* کوہ ہمالیہ کا بہاؤ بہت اونچا ہے۔
کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے۔

* شب برات کی رات برکت والی ہے۔
شب برات برکت والی ہے۔

درخواست برائے رخصت فروری طام

خدمت جناب بیڈ ماسٹر صاحب ایس۔ ایچ۔ ایس راولپنڈی
جناب عالی،

گزشتہ دنوں کے کہ مجھے آج گھر میں فروری طام کے جس کے
باعث میں مکمل حاضر نہیں ہو سکتا۔ براہ مہربانی آج کی
رخصت عطا فرمائیں۔ ممنون فرمائیں۔ شکریہ۔

درخواست گزار

ا۔ ب۔ ج

تعمیرت۔ سٹیشن

مورخہ۔ 04 اپریل 2020ء

دستخط

مضمون -

۵۵)

ورزش کے فائدے

* - ورزش کی اہمیت -

ورزش کی اہمیت سے کسی

کو بھی انکار نہیں۔ ورزش اور کھیل کے انسان کی ذہنی، جذباتی، اخلاقی اور معاشرتی نشوونما پر بہت خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔ ورزش کرنے والا شخص بڑی بھرپور زندگی گزارتا ہے۔

* - ورزش کے فوائد -

ورزش کرنے والے کا جسم

متناسب اور سہول ہوتا ہے۔ ورزش نہ کرنے سے جسم میں جراثیم بڑھ جاتی ہے۔ جس سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔

* - ورزش نہ کرنے کے نقصانات -

ورزش انسان

کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ورزش نہ کرنے سے انسان کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ورزش نہ کرنے والوں کے دل، جگر، گردوں وغیرہ کے جراثیم جمع ہو جاتی ہے۔ اس کے نتائج بڑے

ہو لفاک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں دل اور معدے کی بیماریاں عام ہوتی ہیں۔
 کہ دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں
 = نسخہ بے کم خرچ بالافقیں
 انگریزی مقولہ ہے۔
 "صحت مند دماغ صحت مند جسم کے اندر ہوتا ہے"

★ - ورزش اچھی صحت کے لیے ضروری۔
 اگر بیمار جسم صحت مند ہو تو یہی
 ہمارا دماغ درست کام کرے گا۔ ورزش ہمارے جسم کے
 ساتھ ساتھ دماغ کو بھی تروتازہ اور سٹا داب رکھتی
 ہے۔ اگر ایک شخص بیمار ہے تو اس کا دماغ بھی
 کام نہیں کرے گا۔ ایک صحت مند سٹارڈ بیمار
 سٹارڈ کے مقابلے میں زیادہ اچھا کام کرتا ہے۔
 کہ جو کوئی بھی ورزش سے بیزار ہے
 جس دم بھی دیکھو وہ بیمار ہے

★ - ورزش کا ملکی ترقی میں اہم کردار۔
 اگر نوجوانوں کا
 رجحان کھیل اور ورزش کی طرف نہ ہو تو مختلف

10)

قسم کی منفی سرگرمیوں میں معروف بیوکر ملک
اور قوم کے لیے خاندانہ منہ ثابت بیونے کی بجا
نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ورنہ میں نو جوانوں
میں خود اعتمادی، جرأت، صوصلہ اور ہمدانیت
پیدا کرتی ہے۔ ایسی خوبیاں ہیں جو انسان
کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسی
خوبیاں رکھنے والے افراد ملک اور قوم کے
لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔

Subject Teacher : Mam Afsheen

Contact no. : 0306-5558869

Contact Timing: 03:00 pm to 09:00 pm